



Habib Sugar Mills Limited

3RD/4TH FLOOR, IMPERIAL COURT, DR. ZIAUDDIN AHMED ROAD, KARACHI-75530 (PAKISTAN)

The General Manager,
Pakistan Stock Exchange Limited,
Stock Exchange Building,
Stock Exchange Road,
Karachi.

January 24, 2022

Ref: 22/019/C

Addendum to Notice of 60th Annual General Meeting

Dear Sir,

This is to inform that the 60th Annual General Meeting of the Company which was scheduled at 11:00 a.m. on Wednesday, January 26, 2022 at Jinnah Auditorium, The Institute of Bankers Pakistan (IBP), Moulvi Tamizuddin Khan Road, Karachi will now be held through Zoom Video Link on the same date and time, due to restrictions imposed by the Home Department, Government of Sindh, vide order issued Order No. SOJI/8-1(04)/2020(Stage-4 NPIs) dated January 19, 2022.

Copies of the revised program of AGM through Zoom Video Link published in daily 'Business Recorder' and 'Nawaiwaqt' on January 23, 2022 is enclosed for your ready reference.

In order to facilitate shareholders on account of time constraint, the cut-off time for registration to attend the AGM has been reduced from 48 hours to 24 hours before the time of meeting. Accordingly, shareholders interested in attending the AGM through video link are hereby requested to get themselves registered by sharing following information at agm2022@habibsugar.com for their confirmation and proxy's verification at least 24 hours before the time of the meeting.

Name of Shareholder	CNIC No.	Folio No.	Cell. No.	Email Address

Video conference link details and login credentials will be e-mailed to the registered members/proxies who will provide all the requested information. Shareholders can also provide their comments and questions for the agenda items of the AGM on agm2022@habibsugar.com at least 24 hours before the meeting

Yours Sincerely,

Company Secretary

Chief Financial Officer

Business Recorder, Karachi
Sunday, January 23, 2022



Habib Sugar Mills Limited

**HOLDING OF ANNUAL GENERAL MEETING (AGM)
THROUGH VIDEOLINK**

This is to inform that the 60th Annual General Meeting of the Company was scheduled at 11:00 a.m. on Wednesday, January 26, 2022 at Jinnah Auditorium, The Institute of Bankers Pakistan (IBP), Moulvi Tamizuddin Khan Road, Karachi, in compliance with the SECP Circular No.SMD/SE/2(20)/2021/117 dated December 15, 2021.

On January 19, 2022, Home Department, Government of Sindh, issued Order No. SOJI/8-1(04)/2020 (Stage-4 NPIs) whereby restrictions have been imposed including ban on all types of indoor gatherings in Karachi to avoid spread of the new variant of Covid pandemic.

In view of the above Order, the 60th Annual General Meeting of the Company will now be held through Videolink on the same date and time.

Shareholders interested in attending the AGM through Videolink are hereby requested to get themselves registered by sharing following information at agm2022@habibsugar.com for their confirmation and proxy's verification at least 48 hours before the time of the meeting.

Name of Shareholder	CNIC No.	Folio No.	Cell No.	Email Address

Video conference link details and login credentials will be e-mailed to the registered members/proxies who will provide all the requested information. Shareholders can also provide their comments and questions for the agenda items of the AGM on agm2022@habibsugar.com at least 48 hours before the meeting.

Khursheed Anwer Jamal
Company Secretary

روزنامہ نوائے وقت (2) 23 جنوری 2022ء



حبیب شوگر ملز لمیٹڈ

سالانہ اجلاس عام (اے جی ایم) کا انعقاد بذریعہ وڈیولنک

بذریعہ ہڈا اطلاع دی جاتی ہے کہ کمپنی کا ۶۰ واں سالانہ اجلاس عام بروز بدھ ۲۶ جنوری ۲۰۲۲ء کو صبح ۱۱:۰۰ بجے بمقام جناح آڈیٹوریم، وی انسٹی ٹیوٹ آف مینجمنٹ پاکستان (آئی بی پی)، مولوی فیصل الدین خان روڈ، کراچی میں ایس ای سی پی کے سرکلر نمبر SMD/SE/2(20)/2021/117 مورخہ ۱۵ دسمبر ۲۰۲۱ء پر عملدرآمد کے مطابق طے کیا گیا تھا۔

۱۹ جنوری ۲۰۲۲ء کو محکمہ داخلہ حکومت سندھ نے آرڈر نمبر SOJI/8-1(04)/2020 (Stage-4 NPIs) جاری کیا گیا تھا جس کے تحت کوویڈ کی نئی وبا کے پھیلاؤ سے محفوظ رہنے کے لئے پابندیاں بشمول تمام اقسام کے کراچی میں ان ڈور اجتماعات پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔

مذکورہ بالا حکم نامے کے پیش نظر کمپنی کا ۶۰ واں سالانہ اجلاس عام اب اسی تاریخ اور وقت پر بذریعہ وڈیولنک منعقد کیا جائے گا۔

سالانہ اجلاس عام میں وڈیولنک کے ذریعے شرکت کرنے میں دلچسپی رکھنے والے شیئر ہولڈرز سے بذریعہ ہڈا درخواست کی جاتی ہے کہ درج ذیل معلومات کو اپنے تصدیقی اور پراسس کی توثیق کے سلسلے میں اجلاس کے مقررہ وقت سے کم از کم ۴۸ گھنٹے قبل agm2022@habibsugar.com پر فراہم کر کے خود کو رجسٹرڈ کرائیں۔

شیئر ہولڈر کا نام	سی این آئی سی نمبر	فولیو نمبر	موبائل نمبر	ای میل ایڈریس

وڈیولنک انٹرفیس لنک کی تفصیلات اور لاگ ان کے بارے میں معلومات ان رجسٹرڈ ممبران/پراسسز کو ای میل کر دی جائیں گی جنہوں نے مطلوبہ معلومات فراہم کر دی ہوں۔ شیئر ہولڈرز سالانہ اجلاس عام کے ایجنڈا آنکھ کے بارے میں اپنے تیسرے اور سوالات بھی agm2022@habibsugar.com پر اجلاس سے کم از کم ۳۸ گھنٹے قبل ارسال کر سکتے ہیں۔

خوشیدانور رحال
کمپنی سیکریٹری